



جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس جماعت کو جو بیٹھی ہے سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس جماعت کو جو بیٹھی ہے، سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا چنانچہ انہوں نے کہا: السلام علیکم فرشتوں نے جواب دیا: السلام علیک ورحمہ اللہ ان فرشتوں نے لفظ رحمہ اللہ کا اضافہ کیا“
[صحیح] [متفق علیہ]

حدیث کا مفہوم: جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کو جا کر سلام کریں اور وہ انہیں جو جواب دیں اسے سنیں۔ یہ باہمی سلام و جواب ان کے لیے اور ان کے بعد ان کی اولاد کے لیے، جو رسولوں کے لئے گئے دین پر قائم ہوں گے، مشروع سلام ہوگا چنانچہ آدم علیہ السلام نے کہا: السلام علیکم اور اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا: السلام علیک ورحمة اللہ فرشتوں نے ”ورحمہ اللہ“ کے الفاظ کا اضافہ کیا چنانچہ سلام کرنے اور اس کا جواب دینے کے لیے یہی الفاظ مشروع تھے۔ دیگر احادیث میں ”ورحمہ اللہ و برکاتہ“ کے الفاظ کی زیادتی آئی ہے چنانچہ یہ سلام کرنے میں ہو یا اس کا جواب دینے میں

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3556>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

